

PAKISTAN DOMESTIC
SEASON 2019-20
14 SEP - 24 APR

CRICKET
CHAMPIONS
Inspiring the Nation



قائد اعظم ٹرافی فرسٹ الیون ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ کا دوسرا روز مکمل

- ظفر گوہر اور احسان عادل کی عمدہ باؤلنگ کے باعث ناردرن کرکٹ ٹیم فالو آن کا شکار
- بگٹی اسٹیڈیم میں جاری میچ کا دوسرا روز بھی میزبان بلوچستان کے نام
- عمیر بن یوسف کے بعد فواد عالم کی سنچری نے سندھ کی پوزیشن مزید مستحکم کر دی

لاہور، 22 ستمبر 2019ء:

قائد اعظم ٹرافی کے دوسرے راؤنڈ میں بھی ناردرن کرکٹ ٹیم کی مشکلات میں کمی نہ آسکی۔ پہلے راؤنڈ کے اختتام پر پانچویں پوزیشن حاصل کرنے والی ناردرن کرکٹ ٹیم دوسرے راؤنڈ میں فالو آن کا شکار ہوگئی۔ اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں جاری میچ کے دوسرے روز پہلی اننگز میں 433 رنز کے جواب میں ناردرن کی پوری ٹیم 114 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔ سنٹرل پنجاب کی جانب سے ظفر گوہر نے 4 اور احسان عادل نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اس سے قبل میچ کے دوسرے روز سنٹرل پنجاب کے بیٹسمین اظہر علی اور ظفر گوہر نے کھیل کا آغاز کیا تو پوری ٹیم 107.5 اوورز میں 433 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔ کپتان اظہر علی نے 155 رنز بنائے ناردرن کی جانب سے نعمان علی نے 4، موسیٰ خان نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں ناردرن کرکٹ ٹیم کا کوئی بھی بیٹسمین زیادہ دیر تک وکٹ پر ٹھہر نہ سکا۔ ناردرن کی پہلی وکٹ 26 کے مجموعی اسکور پر گری جب آفاق رحیم 10 رنز بنا کر احسان عادل کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے۔ اس کے بعد وکٹیں گرنے کا سلسلہ تھم نہ سکا اور پوری ٹیم 114 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔ ناردرن کی جانب سے رضاحسن نے سب سے زیادہ 20 رنز بنائے جبکہ ٹیم میں شامل دیگر 4 بیٹسمین ڈبل فگر میں داخل نہ ہوسکے۔ مہمان ٹیم اب بھی 319 رنز کے خسارے میں ہے۔

دوسری جانب بگٹی اسٹیڈیم کوئٹہ میں ایک دہائی بعد جاری فرسٹ کلاس میچ کے دوسرے روز بھی میزبان ٹیم کا پلڑا بھاری رہا۔ بلوچستان کے کپتان عمران فرحت نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 500 رنز بنا کر اننگز ڈکلیئر کر دی۔ جواب میں سدرن پنجاب نے دن کے اختتام پر 161 رنز اسکور کیے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ پہلے راؤنڈ کے اختتام پر پوائنٹس ٹیبل پر آخری پوزیشن پر موجود بلوچستان کی جانب سے عظیم گھمن اور بسمعہ اللہ خان نے کھیل کے دوسرے روز 347 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ سے اننگز کا آغاز کیا تو بسمعہ اللہ خان 32 اور عظیم گھمن 163 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ 336 گیندیں کھیلنے والے اوپنر کی اننگز میں 16 چوکے شامل تھے۔ بلوچستان کے آل راؤنڈر عماد بٹ نے قدرے تیز کھیل پیش کر کے ٹیم کے اسٹرائیک ریٹ کو بڑھایا۔ انہوں نے 68 گیندوں پر 54 رنز بنائے۔ ان کی اننگز میں 9 چوکے اور 2 چھکے شامل تھے۔ یاسر شاہ نے 31 رنز اسکور کیے۔ سدرن پنجاب کی جانب سے محمد عرفان نے 131 رنز کے عوض 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ بلاول بھٹی نے 2 جبکہ محمد عباس اور راحت علی نے 1، 1 کھلاڑی کو پویلین کی راہ دکھائی۔ جواب میں سدرن پنجاب نے اپنی پہلی اننگز کا آغاز کیا تو کپتان شان مسعود 10 کے مجموعی اسکور پر عمر گل کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے۔ انہوں نے 6 رنز بنائے۔ ادھر رواں ڈومیسٹک سیزن کی پہلی ڈبل سنچری اسکور کرنے والے اوپنر سمیع اسلم بھی بلوچستان کے باؤلرز کے سامنے زیادہ مزاحمت نہیں کر سکے۔ وہ 20 رنز ہی بنا سکے۔ انہیں یاسر شاہ نے آؤٹ کیا۔ سدرن پنجاب کی جانب سے آؤٹ ہونے والے تیسرے بیٹسمین صہیب مقصود تھے۔ انہوں نے 10 رنز بنائے۔ 51 رنز پر 3 کھلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد سدرن پنجاب کی جانب سے عمر صدیق اور عمران رفیق نے قدرے بہتر کھیل کا مظاہرہ کیا۔ چوتھی وکٹ کے لیے دونوں کھلاڑیوں کے درمیان 110 رنز کی شراکت قائم ہو چکی۔ دوسرے روز کھیل کے اختتام تک عمر صدیق 67 جبکہ عمران رفیق 56 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔

پہلے راؤنڈ کے اختتام پر پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی خیبر پختونخوا کرکٹ ٹیم یو بی ایل اسپورٹس کمپلیکس کراچی میں جاری میچ میں مشکلات کا شکار ہے۔ عمیر بن یوسف اور فواد عالم کی سنچریوں کی بدولت سندھ نے 476 رنز پر پہلی اننگز ڈکلیئر کر دی۔ جواب میں خیبر پختونخوا نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 97 رنز بنالیے ہیں۔ اس سے قبل سندھ کی جانب سے عمیر بن یوسف اور کپتان اسد شفیق نے میچ کے دوسرے روز کھیل کا آغاز کیا تو اسد شفیق 81 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ عمیر بن یوسف نے 174 رنز اسکور کیے۔ ان کی اننگز میں 18 چوکے اور 3 چھکے شامل تھے۔ نوجوان بیٹسمین 470 منٹ کریز پر موجود رہے۔ مڈل آرڈر بیٹسمین فواد عالم نے اسٹرائیک ریٹ کو بڑھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے میر حمزہ کے ہمراہ 10 ویں وکٹ کے لیے 108 رنز کی ناقابل

شکست شراکت قائم کی۔ فواد عالم نے 138 گیندوں پر 100 رنز بنائے۔ بائیں ہاتھ کے مڈل آرڈر بیٹسمین کی اننگز میں 8 چوکے اور 1 چھکا شامل تھا۔ کپتان اسد شفیق نے 476 رنز 9 کھلاڑی آؤٹ پر اپنی پہلی اننگز ٹکلیئر کردی۔ خیبرپختونخوا کی جانب سے عادل امین نے 5 اور ثمین گل نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں خیبرپختونخوا کا آغاز مایوس کن رہا۔ دونوں اوپنرز 5 کے مجموعی اسکور پر پولین واپس لوٹ گئے۔ کپتان صاحبزادہ فرحان نے 3 اور اسرار اللہ نے 2 رنز بنائے۔ جس کے بعد عادل امین اور اشفاق احمد نے ذمہ دارانہ کھیل کا مظاہرہ کیا۔ دن کے اختتام پر عادل امین 63 اور اشفاق احمد 28 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad
Editor – Urdu Content
Media and Communications
E: ibrahim.badees@pcb.com.pk
M: +92 (0) 345 474 3486
W: www.pcb.com.pk